

30 اپریل 2018

سرمایہ کاری سے برامپٹن اقتصادی بڑھوتری کی جانب گامزن ہے

برامپٹن، آن – برامپٹن کو 2017 کے دوران نئی تعمیر اور توسیع، دونوں حوالے سے، تعمیری سرگرمیوں میں \$1.4 بلین کی سرمایہ کاری کا فائدہ ہوا ہے۔ تعمیری سرگرمیوں اور شہر میں تحریک پانے والے دیگر اقدامات کے نتیجے میں برامپٹن میں زیادہ ملازمتیں اور سرمایہ کاری آئی ہے۔

اس ہفتے، سٹی آف برامپٹن اپنا برامپٹن اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر ریویو 2017 جاری کر رہا ہے۔ تحریری طور پر اور [آن لائن](#) دستیاب یہ دستاویز 2017 کی کامیابیوں اور 2018 میں اس سے آگے جاری بڑھوتریوں کے شعبہ جات پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس میں ثقافتی سنگ میل اور شہر کے کلیدی معاشی شعبوں میں، اہم ترقیاتی منصوبوں سے لے کر کاروباری دنیا میں رہنما کردار ادا کرنے والے شعبے یعنی انٹرپرائیوٹرز کی پروفائلز تک سب سرگرمیاں نمایاں طور پر شامل ہیں۔

برامپٹن کی میئر لنڈا جیفری کا کہنا تھا کہ "اس پچھلے سال کے دوران مضبوط شراکت داریاں اور دیگر کلیدی اقدامات آگے بڑھتے ہوئے نظر آئے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "برامپٹن میں کاروباروں کی تعداد تقریباً چھ فیصد بڑھی ہے – جو ہمارے GTA کے کئی ہمسائیوں سے زیادہ تھی۔ ہماری آبادی کی بڑھوتری، نوجوانی، معیار زندگی اور تنوع کی وجہ سے برامپٹن کاروباروں کے سرمایہ کاری کرنے اور خاندانوں کے آگے بڑھنے کے لیے مسلسل ایک زبردست جگہ رہا ہے۔"

کونسلر جیف بو مین، چیئر آف اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر، کا کہنا تھا کہ "برامپٹن تبدیلی کے لیے تیار ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "ایک اکنامک ڈیولپمنٹ ماسٹر پلان، ایک کلچر ماسٹر پلان اور ایک نیا برامپٹن 2040 ویژن موجودہ طور پر زیر غور ہیں – یہ تمام پراجیکٹس ثقافتی تنوع اور معاشی بڑھوتری کو آگے لے کر جانے میں معاونت فراہم کرنے کے لیے ہیں، تاکہ ایک ایسا برامپٹن تعمیر کیا جا سکے جو سرمایہ کاری اور جدت کا گہوارہ ہو۔"

یہ ماسٹر پلان ایک حکمت عملی کے روڈ میپس ہیں، جو شہر، کاروباری کمیونٹی، فنون اور ثقافتی کمیونٹی کے اندر اور اس کے بعد از ثانوی تعلیم کے اداروں کے ساتھ معاشی بڑھوتری اور مستقبل کی شراکت داریوں کو حمایت فراہم کرنے کے لیے ایک واضح سمت اور اقدامات کو ظاہر کرتے ہیں۔

2017 میں، برامپٹن سٹی کونسل نے نئی STEM پر مرکوز یونیورسٹی اور کینیڈا کے دو بڑے بعد از ثانوی تعلیم کے اداروں، ریٹرسن یونیورسٹی اور شیریڈن کالج کے ساتھ ایک سنٹر آف انوویشن کے قیام کے لیے \$150 ملین تک کا وعدہ کیا ہے۔

ایمیزون کے دوسرے ہیڈکوارٹرز کے لیے ٹورانٹو گلوبل کے ساتھ شراکت داری میں برامپٹن کی بولی ایمیزون کی شارٹ لسٹ میں پہنچ گئی۔

نئے پبل میموریل سنٹر کا پہلا مرحلہ 2017 میں مکمل ہو گیا تھا۔ ایرینوک کٹز سنٹر فار ٹریٹمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ اس موسم بہار میں کھلا ہے، جو مقامی اور علاقائی بچوں اور نوجوانوں کے لیے نگہداشت صحت میں \$60 ملین کی سرمایہ کاری کا حامل ہے۔

میئر لنڈا جیفری کا کہنا تھا کہ "یہ ایک پرجوش وقت ہے۔ برامپٹن ایک کامیاب مستقبل اور مضبوط معاشی ترقی کے لیے تیار ہے۔"

2017 کی نمایاں جھلکیاں:

- بے روزگاری کی علاقائی سطح دسمبر 2016 میں 7.1 فیصد سے دسمبر 2017 میں 5.7 فیصد تک کم ہونا جاری ہے۔
- برامپٹن 2017 میں تعمیراتی کاموں کی کل قدر کے حساب سے ملک میں 10ویں نمبر پر آیا ہے، جس کی وجہ سے سرمایہ کاری میں \$1.4 بلین لگائے گئے۔
- 2017 میں رہائشی تعمیرات کی قیمت \$1 بلین بنی، جس کا مطلب 3,000 رہائشی یونٹس ہے۔
- برامپٹن 63,000 سے زیادہ کاروباروں کا مرکز ہے، جن میں سے 280 کے پاس 100 سے زیادہ افراد ملازمت کر رہے ہیں۔

- 2017 میں نئی کاروباری تعمیر نے کاروباری مقامات میں 410,000 کے رقبے کا اضافہ کیا۔ پرچون کی 28 نئی تعمیرات شروع ہوئیں۔
- 4,500 انٹرپرائیوٹرز نے برامپٹن انٹرپرائیوٹرز سنٹر کی میزبانی میں سیمینارز اور تقریبات میں شرکت کی۔
- برامپٹن انٹرپرائیوٹرز سنٹر نے برامپٹن کے انٹرپرائیوٹرز کو صوبائی فنڈنگ کے طور پر \$155,000 فراہم کیے۔
- 275,653 افراد نے برامپٹن میں فنون کے مظاہروں کی 505 تقریبات میں شرکت کی۔
- 595,516 افراد نے 13 تہواروں اور دیگر خصوصی تقریبات میں شرکت کی۔

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوآرڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

natalie.stogdill@brampton.ca | 905.874.3654